



سوال

(96) جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے مطابق حکومت نہ کرے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

وہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیں کیا وہ کافر سمجھے جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو پھر اس ارشاد باری تعالیٰ کے کیا معنی ہیں کہ:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ تُمَّ الْكٰفِرُونَ ۚ... سورة المائدة ۴۴

"جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔"

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے بغیر حکم دینے کی کئی قسمیں ہیں! جن کے اعتقاد و اعمال کے مطابق احکام مختلف ہیں۔ جو شخص بغیر ما انزل اللہ کا حکم دے۔ اور کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے بہتر ہے تو وہ تمام مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بجائے وضعی قوانین کو نافذ کرے اور ان وضعی قوانین کے نفاذ کو جائز قرار دے۔ خواہ یہ اقرار بھی کرے کہ شرعی قوانین کو نافذ کرنا افضل ہے تو وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا تھا لیکن جو شخص خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے یا رشوت کے لئے یا اپنے اور محکوم علیہ کے درمیان دشمنی کی وجہ سے یا دیگر اسباب کی وجہ بغیر ما انزل اللہ (اللہ تعالیٰ) کے نازل کردہ قانون کے خلاف) حکم دیتا ہے اور جانتا ہے۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور اس پر واجب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق حکم دے۔ تو ایسے شخص کو کبیرہ گناہ کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ اور اس کے اس فعل کو کفر اصغر ظلم اصغر اور فسق اصغر شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ علیہ اور سلف صالح کی ایک جماعت سے یہ بات مستقول اور اہل علم کے ہاں معروف ہے۔

صدام عندی واللہ اعلم بالصواب

[فتاویٰ بن باز رحمہ اللہ](#)



جلد دوم